

22216 - جب بیوی نافرمانی اور سرکشی کرے تو شرعی طور پر کیا کرنا چاہیے

سوال

بیوی کی نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله

ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے :

(اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے) یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے اور اسے استمتاع نہ کرنے دے ، یا پھر اس کی بات تو تسلیم کرے لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد تو اس حالت میں خاوند اسے :

(وعظ ونصیحت کرے گا) وہ اس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند یہ حقوق رکھے ہیں اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے ، اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حق نفقہ ساقط ہو جائے گا ۔

اور پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سے مار کی سزا دینا بھی مباح ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں وعظ ونصیحت کرو النساء (34) ۔

(اور وعظ ونصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ معاشرت کے لیے راضی نہ ہوں تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے)

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

اورانہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو النساء (34) -

(اوراگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کرے تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اسے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے -

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اورانہیں مارو النساء (34) -

(اوراگر ان دونوں کے درمیان مخالفت اور علیحدگی ہونے کا خدشہ ہو) یعنی علم ہو جائے (تو پھر کچھ لوگوں کو حاکم بنایا جائے یعنی خاوند اور بیوی دونوں کے خاندان میں سے اچھے اور مامون قسم کے لوگ بھیجے جائیں جو اگر مناسب سمجھیں تو انہیں آپس میں صلح کروا کر جمع کر دیں اور اگر یہ مناسب نہ ہو تو پھر ان دونوں میں علیحدگی کروا دیں ، تو ان دونوں میں سے جو بھی یہ فیصلہ کریں وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا) -

اور وہ اس طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمنی تک معاملہ چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کے رضامندی سے بھیجیں جائیں جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں ، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلع کر کے علیحدگی کروائیں ، جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا -

اس میں اصل اور دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے :

اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان بن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں اور ایک مرد عورت والوں کے گھروالوں کی طرف سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا - .